

ٹیوٹر کا تعلیمی اقدام :(TUTOR LEARNING INITIATIVE) والدین، سنبھالنے والوں اور گھرانوں کے لیے معلومات

یہاں والدین، سنبھالنے والوں اور سرپرستوں کے لیے ٹیوٹر کے تعلیمی اقدام (Tutor Learning Initiative) کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں جس سے 2021 میں طالب علموں کو تحصیل علم میں مدد ملے گی۔

2020 کا تعلیمی سال ہر سکول کی کمیونٹی کے لیے ایک غیر معمولی اور چیلنجنگ سال رہا ہے۔

وکتوریا کے بہت سے طالب علموں نے اس سال میں ٹرم 2 اور ٹرم 3 کا بیشتر حصہ فاصلاتی تعلیم میں گزارا ہے اور وکتوریا کے سکولوں اور ان کی کمیونٹیوں نے اس زمانے میں ہمارے طالب علموں کو تدریس اور تعلیم کا تسلسل فراہم کرنے کے لیے غیر معمولی کوشش کی ہے۔

ٹرم 4 میں پورے وکتوریا میں سکولوں نے طالب علموں کی ذہنی صحت اور بہبود کو سہارا دینے پر توجہ رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو سکولوں میں تعلیم کے لیے دوبارہ ایڈجسٹ کرنے میں بھی مدد دی ہے۔ اساتذہ طالب علموں کی تحصیل علم کا جائزہ لینے، انفرادی تعلیمی کمی کو دور کرنے اور ان طالب علموں کا پتہ چلانے پر بھی توجہ دیتے رہے ہیں جنہیں سیکھنے کے لیے اضافی مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اساتذہ کمرہ جماعت میں کیے جانے والے مشاہدے اور ایسیمنٹس استعمال کرتے رہے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم کا تجربہ ہر طالب علم کے لیے مختلف تھا۔ جہاں کچھ طالب علموں کے لیے یہ تجربہ بہت اچھا رہا، کچھ دوسرے طالب علم فاصلاتی تعلیم میں شاید اتنے بھرپور طور پر شریک نہیں ہو سکے ہیں۔ 2021 میں باقاعدہ، اعلیٰ معیار کی تعلیم ہمارے اکثر طالب علموں کے تحصیل علم کے متوقع معیار تک ترقی کر پانے کے لیے کافی رہے گی۔ کچھ طالب علموں کو 2021 میں اضافی بھرپور تعلیمی مدد سے فائدہ ہوگا۔

جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اس کام کے لیے، وکتوریا کی حکومت ٹیوٹر کے تعلیمی اقدام (Tutor Learning Initiative) میں 250 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ وکتوریا کے سکول 2021 میں 4100 اساتذہ کو بطور ٹیوٹر شامل کر کے ان طالب علموں کو مدد دیں جنہیں سیکھنے کے لیے اضافی مدد کی ضرورت ہے۔ سکول طے کریں گے کہ ان کے طالب علموں کے لیے اس اقدام پر عملدرآمد کا بہترین طریقہ کیا ہے اور وہ یقینی بنائیں گے کہ طالب علموں کو یہ مدد اس انداز میں ملے کہ دوسری تعلیمی یا سکول کی سرگرمیوں میں کم سے کم خلل ہو۔

بچوں کی بھرپور تعلیمی مدد کے لیے اضافی اساتذہ فراہم ہونے سے کمرہ جماعت میں پڑھانے والے اساتذہ کی یہ یقینی بنانے کی گنجائش بڑھ جائے گی کہ دوسرے تمام طالب علموں کی حصول تعلیم، شریک ہونے اور بہبود کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یعنی تمام طالب علموں کو 2021 میں وہ مدد ملے گی جس کی انہیں ضرورت ہے۔

ٹیوٹر کے تعلیمی اقدام (Tutor Learning Initiative) اور ہمارے سکول میں انفرادی تعلیمی مدد کی ضرورت رکھنے والے طالب علموں کے لیے اس اقدام پر عملدرآمد کے بارے میں مزید معلومات اس سے پہلے جاری کر دی جائیں گی کہ 2021 میں طالب علم ٹیوٹرنگ شروع کریں۔

ٹرم 4 کے دوران سکول طالب علموں کے ساتھ کام کرنے کے ذریعے ان کے فاصلاتی تعلیم کے تجربے اور سکول میں تعلیم کے دوبارہ آغاز کے بارے میں سمجھیں گے۔

اگر آپ کو اپنے بچے کے گھر سے تعلیم کے دوران یا سکول میں واپسی کے بعد اس کی تحصیل علم میں شرکت کے حوالے سے فکر ہے تو براہ مہربانی اپنے سکول سے رابطہ کریں۔